

## 142055-کیا ماں کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلانا ضروری واجب ہے؟

### سوال

میرے بچے کی عمر ابھی صرف پانچ مہینے ہے، اور ہم اسے فیڈر کے ذریعہ دودھ پینے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، کیا شرمعاً ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

اور اگر ماں بغیر کسی سبب کے اپنا دودھ نہیں پلاتی تو کیا وہ گنہگار ہوگی یا نہیں؟

### پسندیدہ جواب

اول:

والد پر واجب ہے کہ وہ اپنے چھوٹے

بچے کو خوراک مہیا کرے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے

معروف طریقہ کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے﴾ البقرة (233).

چنانچہ اگر بچہ ابھی دودھ پیتا ہو تو

اس کی رضاعت کے اخراجات اس کے باپ کے ذمہ ہونگے، اور وہ بچے کو دودھ پلانے والی

عورت کو اخراجات ادا کرنا ہونگے، پہلے دور میں تو یہی رواج اور عادت تھی.

ماں پر واجب نہیں ہے کہ وہ بچے کو اپنا

دودھ پلائے؛ لیکن اگر وہ بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا تو اس صورت میں ماں پر اسے

اپنا دودھ پلانا لازم ہے، اور اگر نہیں پلاتی تو وہ گنہگار ہوگی.

شرح منشی الارادت میں درج ہے:

”اگر بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ

قبول نہیں کرتا اور نہ دوسرا دودھ پیتا ہے، اور بچے کے تلف ہونے کا خطرہ ہو تو

ہلاکت سے بچانے کے لیے آزاد عورت پر اسے اپنا دودھ پلانا لازم ہے، جیسا کہ اگر کوئی

اور عورت نہ پاتی جاتی ہو، اور اسے دودھ پلانے کی اجرت بھی حاصل ہوگی، لیکن اگر بچے

کے تلف ہونے کا خدشہ نہیں تو پھر اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا؛ کیونکہ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو  
معتقرب اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی﴾۔ الطلاق (6). انتہی بتصرف

دیکھیں: شرح منتهی الارادات (13)  
243).

اسی طرح اگر خاوند اسے دودھ پلانے کا  
حکم دے تو راجح قول کے مطابق عورت کے لیے بچے کو دودھ پلانا واجب ہوگا۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”مؤلف کے کلام سے ظاہر یہی ہوتا ہے  
کہ عورت پر یہ لازم نہیں؛ چاہے عورت ابھی خاوند کے نکاح میں ہو یا پھر اس سے علیحدہ  
ہو چکی ہو“

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ  
کہتے ہیں:

”بلکہ جب عورت خاوند کے عصمت و نکاح  
میں ہو تو اس پر بچے کو دودھ پلانا واجب ہے۔

شیخ نے جو کہا ہے وہ زیادہ صحیح ہے،  
لیکن اگر بچے کے والدین کسی دوسری عورت سے دودھ پلانے پر رضامند ہوں تو پھر کوئی  
حرج نہیں۔

لیکن اگر خاوند کہتا ہے کہ تم نے ہی  
اسے دودھ پلانا ہے تو اس صورت میں بیوی کے ذمہ بچے کو دودھ پلانا واجب ہوگا، چاہے  
کوئی دوسری بھی دودھ پلانے والی موجود ہو، یا پھر اس کے لیے مصنوعی دودھ بطور خوراک  
مل جائے، اور خاوند کے کہنے کے تم نے ہی ضرور اسے دودھ پلانا ہے، تو بیوی کے لیے بچے کو  
دودھ پلانے لازم ہوگا۔

کیونکہ خاوند کے ذمہ اخراجات ہیں،  
اور جیسا ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ اخراجات زوجیت و رضاعت کے بدلے میں ہیں۔

اور اگر خاوند اسے کہتا ہے کہ: میں اسے مصنوعی دودھ پلانا پسند کرتا ہوں؛ کیونکہ اس میں بیماری وغیرہ کے دور کا شائبہ بھی نہیں، اور بیوی اسے جواب دے کہ: بلکہ بچے کو میں خود اپنا دودھ پلاؤنگی، تو یہاں بیوی کا حق ہے، اور خاوند کو اسے منع کرنے کا حق حاصل نہیں "انتہی

دیکھیں: الشرح الممتع (517/13).

اس بنا پر جب خاوند اور بیوی راضی ہو تو بچے کو مصنوعی دودھ پلانا جائز ہے، اس صورت میں ماں گھنگار نہیں ہوگی، اور اگر بچہ یہ دودھ قبول نہیں کرتا اور اسے دودھ پلانے والی کوئی دوسری عورت بھی نہیں تو اس حالت میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہو جائیگا، تاکہ اس کی جان کی حفاظت کی جا سکے۔

دوم:

والدین اپنے بچوں اصلی اور نچرل دودھ پلانے کی کوشش کریں، یعنی چاہے ماں کا دودھ ہو یا کسی دوسری عورت کا؛ کیونکہ اس دودھ میں بہت سارے فوائد پائے جاتے ہیں جو مصنوعی دودھ میں نہیں، ذیل میں ہم چند ایک فوائد پیش کرتے ہیں:

1 ماں کا دودھ مکمل محفوظ اور ہر

قسم کے جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔

2 ماں کے دودھ کا کوئی دوسرا دودھ

مقابلہ نہیں کر سکتا چاہے گائے کا ہو یا بکری کا یا اونٹ کا یا کوئی اور مصنوعی دودھ، اس لیے کہ ماں کا دودھ بچے کی ہر یوم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے؛ حتیٰ کہ دودھ پھڑانے کی عمر تک بچے کو جس تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ماں کا دودھ اس کے مطابق پیدا کیا ہے۔

3 ماں کے دودھ میں بچے کی عمر کے

مطابق پروٹین اور شوگر پائی جاتی ہے؛ لیکن اس کے مقابلہ میں گائے بکرا اور بھینس وغیرہ کے دودھ میں ایسی پروٹین پائی جاتی ہے جو بچے کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ دودھ تو اللہ نے ان جانوروں کے بچوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔

4 ماں کا دودھ پینے والے بچوں کی  
نشوونما تیزی سے اور کامل ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں فیڈر سے مصنوعی دودھ پینے  
والے بچوں کی نشوونما صحیح نہیں ہوتی۔

5 ماں کا دودھ پینے سے ماں اور بچے  
میں نفسیاتی اور رحمہلی کا ارتباط پایا جاتا ہے۔

6 ماں کے دودھ میں بچے کے جسم اور  
عمر کے مطابق مختلف ضروری اشیاء و عناصر پائے جاتے ہیں، جو بچے کے نظام ہضم کے  
مطابق ہوتے ہیں، اور دودھ میں بچے کی ضرورت کے مطابق روزانہ تبدیلی پیدا ہوتی رہتی  
ہے۔

7 ماں کا دودھ ایک مناسب درجہ  
حرارت میں محفوظ رہتا ہے جو خود بچے کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور کسی بھی وقت  
اس کا حصول ممکن ہے۔

8 بچے ماں کے پستان سے براہ راست  
دودھ پلانا ماں کے لیے مانع حمل اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور یہ چیز باقی مصنوعی  
اشیاء یعنی مانع حمل گولیاں، یا انجیکشن یا ٹیوب وغیرہ سے بہتر اور سلیم ہے "انتہی  
دیکھیں: توضیح الاحکام (107/5)۔

واللہ اعلم۔